



سوال

کیا سفید بالوں کو دوسرا رنگ کر سکتے ہیں؟

جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی سے رنگنا مستحب اور افضل ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا، لیکن کالے رنگ سے رنگنا ناجائز اور حرام ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفیدی میں ثقامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح تھے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

غَيْرِ وَهَذَا بَشِيءٌ وَابْتَجْتُمُوا السَّوَادَ (صحیح مسلم: 2102)

اس (سفیدی) کو کسی چیز سے تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔

سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيْرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ: الْبُحْتَاءُ وَالنَّحْتَمُ (سنن ابی داؤد، کتاب الترتیل: 4205، سنن ترمذی، أبواب اللباس عن رسول اللہ ﷺ)

تحقیق سب سے بہتر چیز جس سے یہ سفید بال نکلے جاتے ہیں مہندی اور وسہ ہے۔

سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَكُونُ قَوْمٌ مَخْضَبُونَ فِي آخِرِ الرِّثَانِ بِالسَّوَادِ كَمَا صَلَّيْنَا نَحْمًا، لَا يَرِيحُونَ رَأْسَهُمْ النَّجْبِيَّةَ. (سنن ابی داؤد، کتاب الترتیل: 4212) (صحیح)

آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْنَعُ قَوْمًا لِقَوْمِهِمْ (سنن نسائی، کتاب الزینۃ من السنن: 5069) (صحیح)

یہودی اور عیسائی سفید بالوں کو نہیں رنگتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔

1. مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو کالا رنگ لگانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ بالوں کو کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کافروں یا فاسق و فاجر افراد کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اگر اس رنگ میں ایسے افراد کی مشابہت پائی جائے گی تو وہ مشابہت کے قصد کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ



رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (سنن أبی داود، کتاب اللباس: 4031) (صحیح)

جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی